



سوال

(455) حجر اسود کا اصل کہاں سے ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حجر اسود کیا واقعی جنت سے لایا گیا ہے اگر نہیں تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ (حذیفہ بصر بن محمد بلال انجینئر واپڈا، کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ) (۲۲ ستمبر ۱۹۹۵ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کا تعلق جنت سے ہے اگرچہ کچھ ضعیف ہیں لیکن دیگر بعض قابل حجت ہیں۔ ملاحظہ ہو **فتح الباری (۳/۳۶۲)** بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”خواشی مشکوٰۃ“ پر ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ بخاری باب ما ذکر فی الحجر الاسود اور جملہ تفاسیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ کعبۃ المعظّمہ مؤلفہ حسین عبد اللہ باسلامہ الفصل الخامس، (نمبر الحجر الاسود، ص: ۱۲۹)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 352

محدث فتویٰ